



إِسْهَاقُوْهُ أَبِي مِيلِيْكُوْهُ

# Isehaagwa Abiimiileekwa

۰۱ ابراهیم ڈھنی ایفے دور قال، تمادیہ هر اکیان ہروب  
انونہ۔ اونتا ہن بیت ٹونہ مسے تکے۔ اون اسے، إسهاق  
و ہدأ ایمیلیاں افاسنیت جیزارے و ہاشیب ایفے بیتے اے۔

02 آکواسنے إسهاقی دهای لوایف آکاپی،

«إسحاق-مسير بابية، او مهين أنس رَهْسِنْيُوك بَرِيَّوْه كُورِيَّة-

03 بین او مهین بُرُوك قربة تکیت إکووار تندیة، لاکین اُنے قیبزیک دایے اندے، ایدھر ھوک اندے۔ باپوک اپراہیم قیب اُبکیب افکار فایسے اندے، اون وهاش بَرَوْکُوه یارِ یکوہ ایباو ھوکنکه اندے۔

٥٥ إبراهيم گستوه تونه أے سوينيتو، أے هروينتو، أني  
هقوقدا (الله) ،

و مکونه بایکیست.  
44 یاریک یمکویت ققوسے اندے، این یهش اری کسیه  
پیاو اندے۔ بریتاک یارے ستی اری کسٹو اودهی ثبوتے  
کھو، اتفق ایدھر اندے» ادے۔

60 تون توناتی، إسحاق جیر اریب اسأ۔

۰۷ تکٹوس ربکه ونیت داوریت اکای، بین و هاشم  
اودھی بتیوہ سی درتیپ یاین اید اکای، گسّوہ اودھی اری  
»ربکه کُواتوُر». ایدکہ سویے-

08 إسْهَاق بْن تُوْيِي قُوْدَة دُور إِدَيْ هَرَإِي، أَبِيمِيلِاك  
إِلْسَتِينِيَا پَهَادْ شِبَّاكِي إِشِيْ دُور، إِسْهَاق رِبَكَ دَامِيَّة  
فَائِيَّة رِهِيَّة

<sup>9</sup> ایپیلینیک بروہ ولیکیاٹ «ربکہ بروک سدک نکتوکتے، نانھوی بٹوہ گواتشو تیڈیہ؟» ادے۔

إسحاق أرى «بَيْبِوهُ سَبِّيْ أَتَوْدَرَتْ يَاْنَسْ أَدِيتْ إِينَ أَدَهْ»  
أَدَهْ.

۱۰ ایمیلیاک «افری هون سکتا. قال هن بتیوه قیب دواب  
ایکتییاک، و هاشون سومقه تیده.» ادے.

<sup>01</sup> Ibraahim dhhaniif iifyi door gaal, tim'adaya harraakiyaan haroob inawna. Oont'a han beet tuuna masi tiki. Oon usabbi, Isehaag whad'a Abiimiileek Ifalastiineeb Jeeraari whaashiib iifiib beeti ibi.

<sup>02</sup> Ukwaasana Isehaagii dehaay lawaa iifi akaay,

«Isehaag! Masir baabaya, oomhiin ani  
rhisaniyook bariiyooh kwiriya!

<sup>03</sup> Been oomhiin baruuk girba takiit ikwaar tindiya, laakiin ani geebook daayi andi, iidehir hook andi. Baabook Ibraahiiimi geeb abkeeb igalad faaysi andi, oon whaash barookwa y'areekwa iiyaaw hookna andi.

<sup>05</sup> Ibraahiiim kastoo ah toona ani sooyaneetwa, ani shariwootwa, anii waggwe id'ivi sabbi.

<sup>04</sup> am anarweetwa, am ni wiaggwa id ryi sabbii,  
y'areek yhaykweet gaguudsi andi, een yhash  
aree kasseeh iiyaaw andi. Bariiyek y'ari  
sabbii aree kassuuuh uudehay tubuuti khii  
eefeeb iidehar andi.» idi.

<sup>06</sup> Toon toonaatii Isehaag Jeeraareeb is'a.

<sup>07</sup> Tutakatuus Ribka winneet daawriit akaay,  
been whaashi uudehay batiyooh sabbii  
dirteeb y'een iid akaay, kassoooh oodehay aree  
«Ribka kwaatootu!» ijidka soovi.

<sup>08</sup> Isehaag been tooy gwida door id'iyi har'ii,  
Abiimiileek Ifalastiinaayi had'a shibbaakii  
ishbibi door, Isehaag Ribkaab daammeeewwa  
f'eeewwa rhiya.

<sup>09</sup> Abiimileek barooh waliikiyaayt «Ribka barook sidik takatookti, naanhooy 〈Batuuh kwaatootu〉 tidiya?» idi.

Isehaag aree «Batiyyooh sabbii atoodrat y'ani adiit een adi» idi.

<sup>10</sup> Abiimiileek «Afray hoon saktaa! Gaal han batiiyoo hoon geeb diwaab iiktiyeek, whaashoon soomiga tiida.» idi.

١١ أَبِيمِيلِيْكَ كَسْوَه إِدْهِيُّوس سُوْيَة «إِسْهَاقَ ثَرَى رَبَّكَة مَاقْتِي تَهِيْنِيْبَ اُونَّكَ إِدَارَ أَندَى» إِدَرَ.

١٢ بَيْن وَهَوْل إِسْهَاقَ هَرَّوبَ يَادَى، أَكْوَاسْنَة دَهَرَأُوبَيْت فُودَة هَرَّى دَهَايَ يَكِيْتَه.

١٣ إِسْهَاقَ فُودَة هَرَّى إِمَرَى، وَنَّيْتَ قَبَّة تَكَ إِيْكَتَه.

١٤ إِفَسْتِينَى إِسْهَاقَ إِبِيرِيَّبَ اُورَنَّوَه إِكْشِيَاوَه رَهِيْنَة دَوَر وَنَّيْتَ هَاسَدِينَ.

١٥ إِبْرَاهِيمَ بَايَيَ بَرِيَّاهَ إِكْشِيَّه فِرْكَابَ إِيكَتِينِيْتَه تَيْرَه كَسْتِيَه إِفَسْتِينَى هَوَيَ بَوْسِيَانَ.

١٦ مَلِيَّة أَبِيمِيلِيْكَ «إِسْهَاقَ، بَرُوكَ شَاوَتَه هَوْنَ قِيقَاه، أَفَلَانَ تَأَكِّرَة» إِدَرَ.

١٧ إِسْهَاقَ هَوَيَ قِيقَاه، جَيْرَارَ تَابَاتِيْبَ كَوَكِيَّه.

١٨ بَيْنَتُويَه إِسْهَاقَ إِبَابَيْتَه تَيْرَه إِفَسْتِينَى بَوْسَابَ إِيكَتِينِيْتَه إِفَارَكَ، رَيْنَكَه اُوسَمُوسَ سُورَ أَنَّوَسَمَاتَ إِيكَتِينِيْتَه تَأَهَّه هَنَ إِسَمَ.

١٩ إِسْهَاقِيَّبَ إِكْشِيَّه تَابَاتِيْبَ إِفَارَكَه، رَيْتَ قَبَّه يَمِيتَ أَرَى إِمَرِينَ.

٢٠ لَاكِينَ جَيْرَارَه بَيْنَتُويَه إِسْهَاقِيَّبَ إِرِيَّوَيَّه إِمَهَاسِيَّه «آنَ آيَمَ هَنَّيَّة» إِدَنَ، اُونَ أَسَبَّه، بَيْتَ ثُورَه «هَسِيَّاَيَّتَه» إِيدَ سِمَ تَتَقَسَّامَ.

٢١ إِسْهَاقِيَّبَ إِكْشِيَّه رَيْتَ وَيْتَ إِفَرَكَه، بَيْتَ هَنَ مَسَى هَوَيَ إِمَهَاسِيَّاهَتَه، بَيْتَ ثُورَه هَنَ «هَسَادَاتَه» إِيسِمَنَه.

٢٢ بَيْنَتُويَسِيَّبَه وَيْرَ مَهِينَ بَيْتَه قِيقَيَّاتَه وَيْتَ رَه إِفَرَكَ، بَيْتَ ثُورَه قَالَ هَنَ هَوَيَ أَمَهَسِيَّابَ كِيْكَه - بَيْتَ ثُورَه بَرُوهَه «قَوَابَه» إِسَمَ، إِسْبُوَه أَرَى، أَكْوَاسْنَة بَرِيَّه فَهَيَه إِيفَه أَكَاهِيَه بَرَاهَ بَكَ أَنْسَرَمِيَّاه.

٢٣ بَيْنَ اُومَهِينَيَه إِسْهَاقَ بَيْرَشِيَّابَه اُوكِيْكَ قِيقَاهَه.

٢٤ بَيْنَ وَهَوَادَ أَكْوَاسْنَة بَرِيَّزَه دَهَايَ لَوَيَّه «أَنَّهَ إِبْرَاهِيمَ بَابِيَّوكَه أَكْوَاسْنَة، بَارَكُوَيَّه، أَنَّهَ قِيقَوكَه إِيْفَه - إِبْرَاهِيمَ إِكْشِيَّابَه چَلَاهِيَه، إِيدَهَرَه هَوَكَه أَنَّدَه، يَارِيَكَه يَهِيَّكَه فَهُودِسَه أَنَّدَه» إِدَرَ.

٢٥ إِسْهَاقَ بَيْنَ تَوَيَّ سِيلَانَتَه مَهِينَ إِتَّاَكُوكُهُ، أَكْوَاسَنَاهِيَه دَهَايَ سِيلَانِيَّه، مَلِيَّه، بَرُوهَه أَفَوَرَه إِتَّاَكُوكُهُ، إِكْشِيَّابَاه اُرسَه رَيْتَ إِفَرَكَه.

١١ Abiimiileek kassooh idehayoos sooya «Isehaag tari Ribka maagtii tehiiniib ootak idaar andi.» idi.

١٢ Been whawil Isehaag harroob y'adi, Ukwaasana deharaabuuyt gwida harri dehaay yakiya.

١٣ Isehaag gwida harri imri, winneet gaba tak iikti.

١٤ Ifalastiini Isehaag iibriyeeb ooreewwa ikishiyawaawwa rhiina door winneet haasadiin.

١٥ Ibraahim baayaay bariyaah ikishiya firkaab iiktiineet teeri kasteeh ifalastiini hooy boosiyaan.

١٦ Malya Abiimiileek «Isehaag, baruuq shaawti hoon giigaa, aflaan t'akira.» idi.

١٧ Isehaag hooy giigya, Jeeraar t'abaatiib kookiya.

١٨ Beentooy Isehaag ibaabaayt teeri ifalastiini boosaab iiktiineet ifaarik, reetka oosmoos suur atoosmaat iiktiineet t'a han isim.

١٩ Isehaagiib ikishiya t'abaatiib ifaarikna, reet gayi yameet aree imriiin.

٢٠ Laakiin Jeeraari reewiiga Isehaagiib ireewiiga imhasaayna «Aan aayam hineeba!» idiin. Oon usabbi, beet tuuri «Hasiyaayt» iid sim titoozaam.

٢١ Isehaagiib ikishiya reet weet ifrikna, beet han masi hooy imhasasaayna. Beet tuuri han «Hasaadaat» ii simna.

٢٢ Beentoosii baruuh weer mhiin beeti giigyaayt weet ri ifrik. Beet toori gaal han hooy amhassiyab kiiki. Beet toori baruuh «Gawaab» isim. Isabbu aree, Ukwaasana bareeh gaw hiya iifi akaay baraah bak ansiramiyaan.

٢٣ Been oomhiinii Isehaag Beersheebaab ookiik giigya.

٢٤ Been whawaad Ukwaasana bariyyooh dehaay lawiya «Ani Ibraahim baabiyook Ukwaasana, baaraakwiya, ani geebook eefi. Ibraahim ikishiyaayi jillaay, iidehar hook andi, y'areek yhaykweet gaguudsi andi.» idi.

٢٥ Isehaag been tooy siilelti mhiin itaakwikw, Ukwaasanaay dehaay siileeliya. Malya, baruuh ugawooh itaakwikw, ikishiyaayaas aree reet ifrikna.

<sup>26</sup> بَيْنَ اُودُورِ، أَبِيمِيلِيَّاَكِ جِيرَارِيَّ بَرَوَه بَيْتَيْ قِيقِيَّةِ-  
أَهُوسَاتَهِ إِماكْرِيُّوسَوَهِ، فِيكُولِ إِذْيَاَسِ سُورَكَنَاَوَه بَرَوَه  
أَمْوَرَهِ إِيفِينِ-

<sup>27</sup> بَيْنَ تَوَيِّ إِكْتِمَنَه اُودُورِ إِسْهَاقِ «تَوَيِّ نَانِ هَرَوِيِّ إِيتَانَه؟  
تَرِبَنِيَّهِبِ قِيقِسَائِ كِتَيَّنَه هَن؟» إِدِيَّتِ أَرَاثِيَّةِ-

<sup>28</sup> بَرَاهِ «هَنِنِ وَتَيَّنِتِ إِيَّنَهِ، أَكْوَاسَتَهِ قَبِيزَكِ إِيفِينِتِ تَوَنَهِ نَكَنِ؛  
أَونِ أَسَبَّهِ، مَأْسَقِيَّ مَجْلِسِ بَرَوْكُوهِ هَنِنَوَهِ إِنْتَكِنِ نِيَّكُوسِ  
نِدِيَّتِ إِيَّنَهِ، أَونَّاً يَكَانَهِ، هَونِ هَوَيِّ نِحْلِسِ-

<sup>29</sup> تَكَّاكِ بِنَادِيَّيِّيِّ- شَاوَتِيَّهِنِنِ گَلَهَسَنَهِ هَوَكَهِ، گَسَّوَهُوبِ  
أَرَى دَابِيبِ نُوبِرِ هَوَكَهِ- هَونِ قِيقِسَنَهِ هَوَكَهِ؛ لَاكِنِ أَسَقَا  
قِيقِسَنَهِ هَوَكَهِ. أَكْوَاسَتَهِ أَرَى سِدِكِ دَهَرِيُّوكُوهِ- إِدِيَّنِ-

<sup>30</sup> إِسْهَاقِ بَرِيَّهِ قُودَاتِ مَارِيَّهِ دَهَاهِ إِدِإِ، بَرَاهِ كَسَّاهِ تَمِيَّانِ  
فُؤِيَّانِ-

<sup>31</sup> تَوَبِينِ تَورَاهِ كُرُومَابِ آنَدَهَ گَسَّاهِ تَكَّاكِيَّ دَهَاهِ هَلَقْيَانِ  
مَأْسَقِيَّهِ إِدِيَّنِ- إِسْهَاقِ هَنِ بَرِيَّهِ أَسَقَا قِيقِسَيَّةِ-

<sup>32</sup> بَيْنَ اُومِبِإِسْهَاقِيَّبِ إِكْشِيَّةِ إِبِيَّانِيَّتِ، تَورَهِ بَرَاهِ إِفِرِكَنِيَّتِ  
بَرَوَهِ سَوَيَّانِ- بَرَاهِ «يَمِ نِمَرِيَّهِ-» إِدِيَّنِ-

<sup>33</sup> بَيْتِ تَورَهِ إِسْهَاقِ «شِيبِيَا» إِيَّسِمِ- بَيْتِ تَمِيَّنَهِ مَسِيَّهِ  
«بَيْرِشِيبِيَا» أَنْتَوِسِيَّاتِ-

### إِيسَاوِيَّتِ قِربَاتِ تَيَّمَاتِ

<sup>34</sup> إِيسَاوِ فَدِيقَتِ تَمُونَهِ هَوَلَابِ إِبِيرِيَّهِ دَورِ، إِيدِنِيَّتِ تَكَّتِ  
إِدِإِرِ- يَهُودِيَّتِ بَيْرِهِ وَهَتَّاَيِّتِ اُثُونِ- مَسِيَّهِ بَسَمَاتِ، إِيلُونِ  
وَهَتَّاَيِّتِ اُونِ-

<sup>35</sup> لَاكِنِ تَانِ تَامَّتِ إِسْهَافَوَهِ رِبَكَابُوهِ أَكَرَابِ إِسْمُوَيَّانِهِ-

<sup>26</sup> Been oodoor, Abiimiileek Jeeraaree barooh  
beeti giigiya. Ahuusaata imaakriyuuswa,  
Fiikuul idheeshi suurkinaawwa barooh  
amoorma iifiin.

<sup>27</sup> Been tooy iktimna oodoor Isehaag «Tooy  
naan harwee eetaana? Tiribniitehee giigsaayi  
kitteena han?» idii araatamiya.

<sup>28</sup> Baraah «Hinin winneet eena! Ukwaasana  
geebok iifiyeet toona nikan; oon usabbi,  
m'asgi majlis barookwa hininwa ibitkeen  
niikwasi nidiit eena, oont'a yakaana, hoon  
hooy nijilis.

<sup>29</sup> Taktak bin'adaayay. Shaawti hinin kalhasna  
hooka, kassoohoob aree daayiib niweer  
hooka. Hoon giigsina hooka; laakiin asgaa  
giigsina hook. Ukwaasana aree sidik  
deharaayooku.» idii.

<sup>30</sup> Isehaag bareeh gwidaat m'ari dehaay id'i,  
baraah kassaah tamiyaan gw'iyaan.

<sup>31</sup> Tooyiin tooraaw kiruumaab aanda kassaah  
taktakee dehaay halafooyaan m'asgi waadiya  
id'iin. Isehaag han bareeh asgaa giigsiya.

<sup>32</sup> Been oomb'i Isehaagiib ikishiya eeyaanuit,  
toori baraah ifrikneet barooh sooyaan. Baraah  
«Yam nimri!» idii.

<sup>33</sup> Beet toori Isehaag «Shiibaa» ii sim. Beet  
timadiina masi «Beersheebaa» atoosimaati.

### Iisaawiit girbaat teem'at

<sup>34</sup> Iisaaw fadhigt tamuun hawlaab iibriyi door,  
iidneet takat id'ir. Yahudiit Beeri Whittaayiit  
ootu. Masi Basamaat, Eeloon Whittaayiit ootu.

<sup>35</sup> Laakiin taan taam'at Isehaagwa Ribkaabwa  
akraab ismooyaayna.